



سوال

(295) میاں بیوی کا عریاں ہو کر مباشرت کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

کیا میاں بیوی کے لئے عریاں ہو کر مباشرت کرنا جائز ہے یا ان کے لئے اس حاصل میں پردہ واجب ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ہر مرد و عورت پر یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں سے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے۔ ہاں البتہ مرد کے لئے اپنی بیوی اور لونڈی سے اور بیوی و لونڈی کے لئے اپنے خاوند و مالک سے حفاظت نہیں ہے کیونکہ احمد، ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے بہز بن حکیم سے، انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم اپنی شرم گاہوں کی کس قدر حفاظت کریں آپ ﷺ نے فرمایا:

((احفظ عورتک الامن رزقک اوما ملکک یمینک " قلث: الرجل یحون فی القوم فیحون بضعهم فی بغض؛ قال: " اذ استطعت ان لا تری احد اعوزتک فافعلن " قلث: ان کان احدنا خالیاً؛ قال: فالله احق ان یتشی منه)) (سنن ابی داؤد)

”اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا (ہر ایک سے) اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو۔ میں نے عرض کیا کہ جب بعض لوگ آپس میں بیٹھے ہوں تو؟ فرمایا: کوشش کرو کہ تمہاری شرم گاہ کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے جب کوئی خلوت میں ہو؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے۔“

تو اس حدیث میں نبی ﷺ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ عموماً حالت خلوت میں بھی ستر پوشی ہی چاہیے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

کتاب النکاح: جلد 3 صفحہ 256



محدث فتویٰ